

## 8226 - رمضان میں روزے کی حالت میں جلدی پٹیاں باندھنے کا حکم

### سوال

میں سگریٹ نوشی پر بہت ہی حریص ہوں اور دن میں تقریباً بیس سگریٹ پیتا ہوں میرا ارادہ ہے کہ میں کلی طور پر سگریٹ نوشی سے باز آجاؤں اور اسے ترک کر دوں تو بعض دوستوں نے مجھے کہا ہے کہ آپ نیکوٹین کی پٹیاں استعمال کریں جو کہ اس کے لئے بہت ہی مفید ہیں -

تو میرا سوال ہے کہ کیا میرے لئے یہ ممکن ہے کہ میں رمضان میں روزے کے درمیان یہ نیکوٹین کی پٹیاں استعمال کر لوں جب کہ یہ پٹیاں جلد پر باندھی جاتی ہے اور اس میں نیکوٹین جلدی مساموں کے ذریعے جسم میں داخل ہو جاتی ہے اور یہ ایک پٹی چوبیس گھنٹے کے لئے کافی ہے اور صرف سات پٹیوں کے استعمال کی ضرورت ہے - اور میں آپ کو یہ بھی بتا دینا چاہتا ہوں کہ مجھے روزے کی حالت میں سگریٹ نوشی کی بالکل ضرورت محسوس نہیں ہوتی لیکن جیسے ہی روزہ افطار کرتا ہوں محسوس کرتا ہوں کہ ہاتھ خود بخود سگریٹ پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ مجھے کوئی نصیحت فرمائیں -

### پسندیدہ جواب

الحمد لله.

جلد کے چوسنے والی چیزیں روزہ نہیں توڑتیں مثلاً تیل اور مرہم اور جلدی علاج کی وہ پٹیاں جن پر کمیائی مادہ یا دوائی لگی ہوتی ہے مثلاً سگریٹ نوشی کا علاج کرنے کے لئے استعمال ہونے والی پٹیاں اور آپ کو یہ نصیحت ہے کہ آپ اپنے جسم کے متعلق اللہ تعالیٰ سے ڈریں اور اسے اس سگریٹ نوشی کے ساتھ نقصان نہ دیں جو کہ شرعی طور پر حرام ہے -

نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے :

( اور بیشک آپ کے جسم کا بھی آپ پر حق ہے )

اور ہم اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ وہ آپ کا اس گندی بیماری کو ترک کرنے میں تعاون فرمائے اور ہمیں اور آپ کو پر برائی سے محفوظ رکھے -

اللہ تبارک و تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمتیں نازل فرمائے -



والله تعالى اعلم .